



SHAH-I-HAMADAN (RA)

Hazrat Amir Kabir Ali Sani, Mir Sayid Ali Hamadani (RA) was born in Hamadan, Iran in 714 AH/1314 AD. Hamadan was then a great center of Islamic learning. At a young age he (RA) mastered all the available knowledge in theology, philosophy, metaphysics and sufism and travelled extensively seeking knowledge and practicing spiritualism till he became a scholar of repute, a mystic and a perfect saint. He spent his life in propagating Islam and undertook several extensive tours through difficult terrains and over hazardous routes.

He came to Kashmir three times i.e. in 774 AH/1372 AD, 781 AH/ 1378 AD and 785 AH/ 1383 AD.

The first visit lasted 4 to 6 months. During this brief stay he held intellectual and spiritual debates with a great Hindu Yogi Shahpore, the keeper and chief priest of the large temple built in the heart of the city of Srinagar by Raja Parversen in the second century AD. The learned Hindu Sadhu wielded great influence on the Hindu masses and also on the Hindu intelligentsia. The great Yogi accepted Islam amidst a large gathering. This in turn resulted in mass conversions.

2

The second visit lasted two and a half years. He was accompanied by 700 Sayids, whom he posted to various parts of the valley to give detailed instructions in the tenets of Islam to the newly converted Muslims. He left for Turkistan via Ladakh.

The third visit lasted a year. He left via Pakhli and breathed his last at Koner in 786 AH/1384 AD. His earthly remains were taken and buried at Khatlan, Turkistan besides his father Sayid Shahsab-ud-Din (RA).

The Muslims of Kashmir owe a great debt of gratitude to this luminary of Islam for bringing them en-masse within the fold of Islam. He is lovingly known as the founder of Islam in Kashmir -"Baniay-Musalmani." He had brought two relics of the Holy Prophet (PBH) with him viz: Tent Pole used in Jihad-e-Badr and 2. Standard of the Prophet (PBH). Being a great scholar he wrote many pamphlets and books in theology, sufism and public administration. Some of these are as under:

3

(1) **Awrad-i-Fathia-** is a concise primer, describing the unity and attributes of Allah in a grand style. It is recited twice daily in unison after the Fajr and Isha prayers at Khanqahi Mualla and is otherwise also recited by tens of thousands of Kashmiris all over the valley. Even illiterate Kashmiris have committed it to memory. **The word 'Awrad' means repeated short prayers.**

(2) **Chihil Asrar-** The forty secrets' pertains to sufism.

(3) **Zakhiratul Maluk** relates to the Art of Government and was given as advice to Sultan Qutb-ud-Din of Kashmir.

(4) Sirat-ul-Talibeen (5)Risala Dah Qaida (6)Mirat-ul-Talibeen (6) Risala Mashia Meeriah (7) Risala Munajat Vol 1 & 2 (8) Risala Fatwia (9) Risala Zikriya (10) Risala Farsia (11)Risala Hamadania (12) Risala Wajoodia (13) Risala Eitiqadia (14) Masharibul Azwaaq (15) Munqabatul Jawahir (16) Muwadatul Qurba (17) Sharah Fasoosul Hikam (18) Asrarul Nuqt (19) Sharah Qasida-i-Khumria Fardia (20) Maktoobat dar soorat-u-seerati Insan (21)Risala Istilahat-i-ilm-ul-Qiyafah (22) Kitab-u-sabeen-fe-fazail Amirul Mumineen Ali, (23) Arbeyeen, Raudatul Firdous, (24) Firdausul Akhyar, (25) Manazil-us-Salikeen, (26) Khulasat-ul-Manaqib.

4

Khanqahi Mualla the great Masjid, built by the son of Shah-i-Hamadani (RA) Hazrat Mir Muhammad Hamadani (774-854 AH) in 798 AH/1395 AD is held The second visit lasted two and a half years. He was accompanied by 700 Sayids, whom he posted to

01) The Khanqah has been built on the stone platform erected by Shah-i-Hamadani (RA) under the inspirational guidance of the Holy Prophet (PBH)

02) The keeper and the disciples have small rooms built for them on northern and southern ends of the Khanqah for devotional purposes.

03) A superintendent is appointed to look to the comforts of inmates of the sanctuary, devotees, strangers, pious men and seekers after truth. He is advised to serve the elderly, obey the pious, and be a brother to youngster's and a father to orphans. He should clothe the naked and feed the hungry. Hazrat Mir Muhammad Hamadani (RA) presented a valuable jewel for the cost of the land and constructions. The two relics are taken out and exhibited, when offering mass prayers on the occasion of any natural calamity afflicting the Muslims.

Shah-i- Hamadan (RA) belonged to Shafi school of fiqh. But as the Muslims of Kashmir belonged to Hanafi school of fiqh, he suggested no changes in this practice in the overall interests of Islam. When Sultan Shahab-ud-Din was engaged in a war with King Ferozshah, Hazrat Shah-i-Hamadan (RA) got peace restored between them.

Mir Sayyid Ali Hamadani (RA)

From Wikipedia, the free encyclopaedia

Title	Shah Hamadan (RA)
Born	1314
Died	1464 (aged 63)
Ethnicity	<u>Iran</u>
Region	<u>Asia</u>
Jurisprudence	<u>Sufism</u>
Main interest(s)	<u>Tasawwuf</u>

Mir Syed Ali bin Shahab-ud-Din Hamadani (RA) (Persian: میر سید علی شهاب الدین همدانی) (1384-1314) was a Persian Sūfī of the Kubrāwī order, a poet and a prominent Muslim scholar. He was born on Monday, 12th Rajab 714 AH (1314 A.C) in Hamadan and died in 786 AH/1384 in Kunar and was buried in Khatlan. He was very influential in spreading Islam in Kashmir and has had a major hand in shaping the culture of the Kashmir valley. He was also known as "Shāh Hamadhān" ("King of Hamadhān", Iran) and as Amīr-i Kabīr ("the Great Commander"). He wrote several short works on spirituality and Sufism. He was immortalized by poets like Allama Iqbal.

His name was Ali, and titles were Amir-e-Kabir, Ali Sa'ani, Shah-e-Hamadan (**RA**) and Mir. Besides them, the Chroniclers had mentioned several other titles: Qutub-e-Zaman, Sheikh-e-Salikan-e-Jehan, Qutub-UI-Aktab, Moih-UI-Ambiya-o-UI-Mursaleen, Afzal-UI-Muhaq-e-qeen-o-Akmal-UI-Mudaq-e-qeen, Al-Sheyookh-UI-Kamil, Akmal-UI-Muhaqqiq-UI-Hamadani etc.

Influence on Kashmiri culture

Shah-e-Hamadan (**RA**) has been on the principal historical figures who have shaped the culture of Kashmir. His influence on arts and culture and the economy of the valley cannot be overstated. Among the seven hundred followers who accompanied him to Kashmir, were men of arts and crafts who flourished in the valley. They popularized Shawl-making, carpet-manufacturing, cloth-weaving, pottery and calligraphy. Allama Iqbal admits that because of Shah Hamadan (**RA**) the wonderful arts and crafts turned Kashmir into a mini Iran and brought about a revolution in the thinking process of the people. The skills and know-how he brought to Kashmir gave rise to an industry which is world famous even now as the home of Cashmere shawls. The many vocations he introduced in the valley have provided a livelihood to the artisans of Kashmir for centuries.

Shah Hamadan (**RA**) was a Multi-dimensional personality. He was a social reformer besides being a preacher. He brought substantial reforms in the lives of ordinary Kashmiris, getting rid of practices like black magic and Sati. He made Islamic teachings known to the people in Kashmir, improved their beliefs, made efforts for the building of their character and laid down a fool-proof system for the propagation of the Islam. He introduced the Central Asian architecture in the valley and when fused with the Kashmiri architecture, gave rise to a new style. The most famous example of this is the Khanqah-e-Mualla, the monastery dedicated to him in Kashmir. This building, which contains the room where he stayed on his first visit to the valley, is a beautiful model of wooden architecture of Kashmir, with engravings on walls. Friday prayers are said there where hundreds gather to pray.

اوراد فقیہہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِیْمَ (سہ بار)

میں اُس خدا کے بزرگ و برتر سے مغفرت چاہتا ہوں جس

الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقِیُّوْمُ

کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا

وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ وَاَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ

اور میں اُس کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اسی سے توبہ کا سوال کرتا

اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ

ہوں۔ اے خدا تو سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے

السَّلَامُ وَاِلَیْكَ یَرْجِعُ

مخلوقات کو سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی لوٹتی

كَرَمِكَ اَحْمَدُكَ بِجَمِیْعِ

میں تیری ان تمام خوبیوں کی تعریف کرتا ہوں

مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

جن کو میں جانتا ہوں اور جو مجھ سے پلو شیعہ

وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعَلَى جَمِیْعِ نِعْمَتِكَ

ہیں۔ اسی طرح میں ان سب نعمتوں کا شکر گزار ہوں جن سے

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعَلَى

میں واقف ہوں اور جن سے نہیں اور ہر حالت میں

كُلِّ حَالٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے

الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ

شیطانِ مردود کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ ایسا معبود ہے جس کے سوا

السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

ہے اے ہمارے پالنے والے خدا ہمیں سلامتی سے

وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ

زندہ رکھ اور ہمیں سلامتی کے گھر میں یعنی جنت الفردوس میں داخل

تَبَارَكَتْ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا

کر۔ تو برکت والے ہے اے ہمارے رب اور تو بہت

ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

بلند ہے اے بزرگ اور عزت والے خدا

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

اے اللہ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیری

يُوَافِي نِعْمَتَكَ وَيُكَافِي مَزِيْدَ

تمام نعمتوں کو پورا کر دے اور تیری مزید بخشش کی برابر ہی کرے

إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ

اور کوئی معبود نہیں زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا۔ نہیں

سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

بگڑتی اسے اور نیکھ اور نیند۔ اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے

وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي

اور جو زمین میں ہے وہ کون ہے کہ سفارش کرے

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

اس کے سامنے مگر اسی کے حکم سے جانتا ہے جو

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

سامنے اس کے ہے اور جو

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ

اس کے پیچھے ہے۔ اور انھیں گھیر سکتے ہیں وہ کچھ بھی علم سے

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ

اس کے مگر جس قدر چاہا اللہ نے، گھیر لیا کرسی نے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ

اس کی آسمانوں کو اور زمین کو اور نہیں تھکانا اسے

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

محافظة کی ان کی اور وہ برتر بزرگ عظیم ہے یعنی

سُبْحَانَ اللَّهِ (۳۳ بار) الْحَمْدُ لِلَّهِ

پاک ہے اللہ (۳۳ مرتبہ) سب تعریفیں اللہ کو

(۳۳ بار) اللَّهُ أَكْبَرُ (۳۳ بار)

(۳۳ مرتبہ) خدا بہت بڑا ہے (۳۳ مرتبہ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے نہ اس کا کوئی شریک نہیں

لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ

اس کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (دس بار)

ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ (دس مرتبہ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْجَبَّارُ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو زبردست بادشاہ ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ قَهَّارٌ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو ایک ہے اور تہم کر نیو والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ لَا

اس خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو غالب اور سبب مغفرت

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ السَّتَّارُ لَا إِلَهَ

کر نیو والا ہے۔ اس خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بزرگ اور پوش ہے

إِلَّا اللَّهُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى لَا إِلَهَ إِلَّا

اس خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا اور اونچا ہے۔ اس خدا

اللَّهُ خَالِقُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا إِلَهَ

کے سوا اور معبود نہیں جو رات اور دن کو پیدا کر نیو والا ہے۔ اس خدا کے سوا

إِلَّا اللَّهُ الْمَعْبُودُ بِكُلِّ مَكَانٍ لَا إِلَهَ

اور کوئی معبود نہیں جو ہر جگہ پوجا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ الْمَذْكُورُ بِكُلِّ لِسَانٍ لَا إِلَهَ

نہیں جو ہر زبان سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے سوا اور

إِلَّا اللَّهُ الْمَعْرُوفُ بِكُلِّ

کوئی معبود نہیں جو مشہور ہے ہر احسان

إِحْسَانٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُلُّ يَوْمٍ

کے ساتھ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو ہر دن

هُوَ فِي شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ایک نئی نشان میں ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

إِيمَانًا بِاللّٰهِ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہا پر ایمان لاتے ہوئے کہتا ہوں۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

أَمَانًا مِنَ اللَّهِ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہا سے امن چاہتے ہوئے کہتا ہوں۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

أَمَانَةً عِنْدَ اللَّهِ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

بہر خدا کے نزدیک امانت ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

اور کسی ایک کوفت اور طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ

معبود نہیں اللہ کے سوا۔ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت

إِلَّا آيَاهُ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا

نہیں کرتے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں یہ بات بالکل سچ ہے

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَصِدْقًا

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ایمان اور صدق سے اللہ

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْبُدًا وَرِفْقًا

کے سوا اور کوئی معبود نہیں بندگی اور غلامی کے ساتھ کہتا

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَلْطَفًا وَرِفْقًا

ہوں اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو مہربان اور رفیق ہے

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو ہر چیز سے پہلے ہے

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو ہر چیز کے بعد ہے

لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْقَى رَبَّنَا وَيَفْنَى

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو خرد رہتی رہے گا جبکہ دنیا کی ہر چیز

وَيَمُوتُ كُلُّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

فانی اور مرنے کے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو کھلم

الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِينِ لَّا إِلَهَ إِلَّا

کھلا حق کے ساتھ بادشاہ ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود

اللَّهُ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْيَقِينِ لَّا إِلَهَ

نہیں جو یقیناً سچا بادشاہ ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود

إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَّا إِلَهَ إِلَّا

نہیں مگر خدا جو بہت اونچا اور بہت بڑا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود

اللَّهُ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مگر اللہ جو نرم اور بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ

جوسات آسمانوں کا پالنے والا ہے اور بزرگ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

عرش کا۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود

أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں جو تمام شہوں سے بڑھ کر سچا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

حَبِيبِ النَّوَابِينَ لَّا إِلَهَ إِلَّا

جو تو بہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود

اللَّهُ رَاحِمِ الْمَسَاكِينِ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نہیں جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں

هَادِي الْمُضْلِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جو گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

دَلِيلُ الْخَاطِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جو حیرانوں کا رہنما ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو خوفزدہ

أَمَانُ الْخَائِفِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لوگوں کے لئے امن ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو فریاد کرنے والوں

غِيَاثُ الْمُسْتَغِيثِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو

خَيْرُ النَّاصِرِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ

بہترین مددگار ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہترین

الْحَافِظِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

رکبان ہے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہترین میراث لینے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْحَاجِمِينَ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہترین عمران ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو اچھا رزق دینے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہترین وسعت کرنے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الْعَافِرِينَ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہترین مغفرت کرنے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو بہترین رحم کرنے والا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو ایک ہے جس نے ہمایا کیا اپنا

وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعْرَجْتَهُ

وعدہ اور اپنے بندہ خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قلعہ دی اور ناسب کیا اسے

وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَّثَ وَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ

شکر کو اور شکست دی کافروں کو اسکی کھلی ذات نے اور اس کے بعد اور کوئی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَلَهُ

بجز نہیں اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو نعمت والا ہے اور جس کے لئے

الْفَضْلُ وَلَهُ التَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ

بزرگی ہے اور جس کے لیے تعریف ہے اچھی اللہ کے سوا کوئی

إِلَّا اللَّهُ عَدَدُ خَلْقِهِ وَزِينَةُ عَرْشِهِ

معبود نہیں اسکی مخلوق کے شمار اور اس کے عرش کے زین اور

وَرِضَاءُ نَفْسِهِ وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ

اس کی ذات کی رضامندی اور اسکی کلمات کی روشنائی کے برابر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَاحِبُ الْوَحْدَانِيَّةِ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں جو صرف ایک واحد نفوس اور رحمت

الْفَرْدَانِيَّةِ الْقَدِيمِيَّةِ الْأَزَلِيَّةِ

ہے اپنے والی ذات ازل سے

الْأَبَدِيَّةِ لَيْسَ لَهُ ضِدٌّ وَلَا يَنْدُ

کے برابر نہ، جس کی نہ کوئی ضد ہے نہ کوئی مثل

وَلَا شِبْهُهُ وَلَا شَرِيكَ لَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور نہ ہم شکل نہ کوئی اسکا شریک، اللہ کے سوا اور کوئی معبود

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

نہیں جو ایک ہے جسکو کوئی سا جمل نہیں جس کے لیے بادشاہی ہے

وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيَى وَيَمُوتُ وَهُوَ حَيٌّ

اور اسی کیلئے سب تعریفیں ہیں جو زندہ کرتا ہے اور ساتا ہے وہ زندہ ہے

لَا يَمُوتُ بِيَدِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى

کبھی نہیں مے گا۔ اسی کے قبضہ قدرت میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

پر قادر ہے۔ سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ

اسی کی ذات پہلی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی

وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور اندر کا بھی وہ ہر چیز کو جانتا ہے

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اس جیسی کوئی چیز نہیں دو تہم سننے اور دیکھنے والا ہے

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

ہیں اللہ کافی ہے اچھا کارساز اور اچھا

نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ (۳۱)

آقا اور اچھا مددگار ہے۔ دیکھیں مرتبہ ۱

غَفَرَ لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

تیری مغفرت مانگتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹنے کی جگہ

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا

اے اللہ جس چیز کو تو عطا کرے اسے کوئی نہیں روک سکتا اور جو چیز

مُعْطَىٰ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا

تو نہ دینا چاہتا ہے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور جس چیز کا تو فیصلہ کرے

قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذُجْدَمِكَ الْجُدُ

اسے کوئی لوٹا نہیں سکتا اور نہیں فائدہ دیتی ہے تیرے سامنے دوسرے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ الْوَهَّابِ

کی دولت مندی بہت پاک ہے میرا اور رب جو میت و نماز پڑھائے اور آقا

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ الْكَرِيمِ

سزا بہت پاک ہے جو میت ہی اور نماز پڑھ کر اور عطا کرنے والا ہے

الْوَهَّابِ يَا وَهَّابُ سُبْحَانَكَ مَا

اللہ بہت اور نماز بہت ہی اور نماز ہے پاک ہے تو

عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ سُبْحَانَكَ

تیری عبادت جیسا کہ تیرا حق تھا نہیں کیا۔ اے پاک خدا ہم نے

مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ سُبْحَانَكَ

تجھے نہیں پہچانا جیسا کہ تیرا حق پہچاننے کا تھا۔ اے پاک خدا

مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ سُبْحَانَكَ

ہم نے تیرا ذکر نہیں کیا۔ اے پاک خدا

مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ

ہم نے تیرا شکر نہیں کیا۔ پاک ہے اللہ

الْأَيْدِي الْأَبَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ

ہمیشہ کے لئے رہنے والے ہے پاک خدا ذات

الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ

و صفات میں فقط ایک ہے پاک اللہ

الْفَرْدِ الصَّمَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَافِعِ

فقط ایک اور بے نیاز ہے پاک اللہ آسمانوں کو

السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ

بمشدد کمرے والے ستونوں کے بغیر پاک اللہ

الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وُلَدًا

اللہ نے نہ تو اختیار کیا ہے بیوی اور نہ اولاد

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے نہ تو کسی کو جنما ہے اور نہ ہی اور نہ تو جنما

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

کیا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی برابر اور ہمسر ہے

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

پاک ہے اللہ جو ایک بہت ہی پاکیزہ بادشاہ ہے

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ

جو دنیا کے ظاہری ملک اور فرشتوں کی دنیا کا بادشاہ ہے

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ

پاک ہے اللہ جو عزت اور بڑائی

وَالْقُدْرَةِ وَالْهِبَةِ وَالْجَلَالِ

اور قدرت اور ہیبت اور کرامت اور عظمت

وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَالْبَقَاءِ وَالشَّانِ

اور حسن و جمال اور کمال اور ہمیشگی اور تعریف

وَالضِّيَاءِ وَالْآلَاءِ وَالنِّعْمَاءِ

اور روشنی اور باطنی نعمتیں

وَالكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ

اور بزرگی اور بہت رُعب وال ہے پاک ہے اللہ

الْمَلِكِ الْحَمِي الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا

جو ایسا بادشاہ ہے زندہ نہ کبھی سوتا ہے اور نہ کبھی

يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَ

میرا ہے۔ وہ بہت پاک ہے اور عزت و ہے وہ ہمارا رب اور

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ

فرشتوں اور راجوں کا رب ہے پاک ہے اللہ

اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور تمام تعریفیں اللہ کے ہیں خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں

وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

اور اللہ بہت بڑا ہے نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت کسی اور کو سوا

بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ

سند و برتر خدا کے اے خدا تو وہ بہا بادشاہ

الْحَقُّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

ہے کہ نہیں ہے اور کوئی معبود تیری ذات کے سوا

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

اے خدا اے رحیم کرنے والے اے بخشنے والے

يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامُ

اے بادشاہ اے مقدس ذات اے سلامتی والے

يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيِّمُنُ يَا عَزِيزُ

اے امن دینے والے اے حفاظت کرنے والے اے غالب

يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ

اے زبردست حکم کرنے والا اے عظمت والے اے پیدا کرنے والے

يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ

اے کائنات پیدا کرنے والا اے صورتیں بنانے والے اے مغفرت کرنے والے

يَا قَهَّارُ يَا وَهَّابُ يَا رَزَّاقُ

اے قہر کرنے والے اے بخشنے والے اے رزق دینے والے

يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيمُ يَا قَابِضُ

اے فتح دہنے والا اے بہت جاننے والا اے قبض کرنے والے

يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ

اے کفونے والا اے پست کرنے والا اے بلند کرنے والا

يَا مَعِزُّ يَا مُدِّدُ يَا سَمِيعُ

اے عزت دینے والا اے مدد دینے والا اے بہت سننے والا

يَا وَاسِعُ	يَا حَكِيمُ	يَا وَدُودُ
لے وسعت کرنے والے	لے حکمت والے	لے محبت کرنے والے
يَا مَجِيدُ	يَا بَاعِثُ	يَا شَهِيدُ
لے بزرگی والے	لے قبروں سے اٹھانے والے	لے روضہ و ناخسہ
يَا حَقُّ	يَا وَكِيلُ	يَا قَوِيُّ
اے سچے	لے کام کے زمر دار	لے قوت والے
يَا مَتِينُ	يَا وَليُّ	يَا حَمِيدُ
لے سنجیدہ	لے دوستی والے	لے تعریف کیے ہوئے
يَا مُحْصِيُّ	يَا مُبْدِيُّ	يَا مُعِيدُ
لے شمار کرنے والے	لے مدد سے وجود دینے والے	لے زود روٹانے والے
يَا مُجِيبُ	يَا مُمِيتُ	يَا حَيُّ
لے زندہ کرنے والے	لے مارنے والے	لے زندہ رہنے والے

يَا بَصِيرُ	يَا حَكَمُ	يَا عَدْلُ
لے بہت دیکھنے والے	لے حکم کرنے والے	لے انصاف کرنے والے
يَا لَطِيفُ	يَا خَبِيرُ	يَا حَلِيمُ
لے مہربانی کرنے والے	لے خبر رکھنے والے	لے نرمی کرنے والے
يَا عَظِيمُ	يَا عَفْوُ	يَا شَكُورُ
لے عظمت والے	لے مغفرت کرنے والے	لے شکر قبول کرنے والے
يَا عَلِيُّ	يَا كَبِيرُ	يَا حَفِيظُ
لے بہت اونچے	لے بہت بڑے	لے محافظت کرنے والے
يَا مُقِيتُ	يَا حَسِيبُ	يَا جَلِيلُ
لے ریزی دینے والے	لے کافی ہونے والے	لے بہت بڑے
يَا كَرِيمُ	يَا رَقِيبُ	يَا مُجِيبُ
لے بہت بزرگ	لے خیال رکھنے والے	لے دعا قبول کرنے والے

يَا مُنْعِمُ	يَا مُنْتَقِمُ	يَا عَفْوُ
لے انعام کرنے والے	لے بدلہ لینے والے	لے معاف کرنے والے
يَا رَوْفُ	يَا مَالِكُ الْمَلِكِ	
اے مہربان	اے مالک کے مالک	
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	يَا رَبُّ	
اے عزت اور بزرگی والے	لے ہائے والے	
يَا مُقْسِطُ	يَا جَامِعُ	يَا غَنِيُّ
لے انصاف کرنے والے	لے جمع کرنے والے	لے دولت مند
يَا مُغْنِيُّ	يَا مُعْطِيُّ	يَا مَانِعُ
لے دولت دینے والے	لے عطا کرنے والے	لے روکنے والے
يَا ضَارُّ	يَا نَافِعُ	يَا نُورُ
لے نقصان دینے والے	لے نفع پہنچانے والے	اے روشنی

يَا قَيُّوْمُ	يَا وَاحِدُ	يَا مَا جِدُ
لے پہلے رہنے والے	اے واحد	لے بزرگ مطلق
يَا وَاحِدُ	يَا أَحَدُ	يَا صَمَدُ
لے معاف نہ کھتا	لے وجود میں ایک	لے بے پروا
يَا قَادِرُ	يَا مُقْتَدِرُ	يَا مُقَدِّمُ
لے قدرت والے	لے موت والے	لے آگے کرنے والے
يَا مُؤَخِّرُ	يَا أَوَّلُ	يَا آخِرُ
لے پیچھے کرنے والے	لے سب سے پہلے	لے سب سے بعد
يَا ظَاهِرُ	يَا بَاطِنُ	يَا وَالِيُّ
لے ظاہر	لے باطن	اے مالک
يَا مُتَعَالِيُّ	يَا بَرُّ	يَا تَوَّابُ
لے بلند	اے نیک	لے توبہ قبول کرنے والے

يَاهَادِي يَا بَدِيعُ يَا بَاقِي
 لے جرات کرنے والے لے چیزوں کو پیدا کرنے والے لے باقی رہنے والے
 يَاوَارِثُ يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ
 لے میراث لینے والے لے راہ دکھانے والے لے بہت صبر والے
 يَا صَبُورُ يَا صَادِقُ يَا سِتَارُ
 اے صبر والے اے سچے لے پردہ پوش
 يَا مَنْ تَقَدَّسَ عَنِ الْأَشْبَاهِ ذَاتُهُ
 لے وہ خدا جس کی ذات ہمیشگی ہونے سے پاک ہے اور
 وَتَنَزَّاهُ عَنِ مِثَابِهَةِ الْأَمْثَالِ
 جس کی صفیئیں مثل ہونے سے بری ہیں سے وہ خدا
 صِفَاتُهُ وَيَا مَنْ دَلَّتْ عَلَى
 جس کے ایک ہونے پر اس کی نشانیاں دلاست

وَحَدَانِيَّتِهِ آيَاتُهُ وَشَهِدَتْ
 کرتی ہیں اور جس کے پروردگار
 بِرَبُّوِيَّتِهِ مَصْنُوعَاتُهُ وَاحِدٌ لَا
 ہونے پر اس کی بنائی ہوئی چیزیں گواہ ہیں جو کسی
 مِنْ قَلَةٍ وَمَوْجُودٌ لَا مِنْ عِلَةٍ
 کسی کی وجہ سے ایک نہیں جو کسی سبب کی وجہ سے موجود
 يَا مَنْ هُوَ بِالْبَرِّ مَعْرُوفٌ وَبِالْإِحْسَانِ
 نہیں اسے وہ خدا جو نیک میں مشہور ہے اور احسان کے ساتھ
 مَوْصُوفٌ مَعْرُوفٌ وَيُبَلِّغُنَا
 موصوف ہے جو مشہور ہے بلا ختم ہونے کے تعریف
 وَمَوْصُوفٌ بِلَا نِهَائِيَةٍ أَوْلُ قَدِيمٍ
 کیا گیا ہے وہ بغیر ابتدا ہر کے پہلا اور ہمیشہ رہنے والا

بِلَا اِبْتِدَاءٍ وَاخِرٌ كَرِيمٌ بِلَا اِنْتِهَاءٍ
 اور بغیر ابتدا کے سب سے اخیر اور سخی ہے۔ اور جس نے
 وَعَقَرْدُ نُوْبِ الْمَذْنِبِيْنَ كَرَمًا وَا
 گناہگاروں کے گناہ اپنے کرم اور نرمی سے مٹانے کے اور
 حِلْمًا يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
 اے وہ ذات جس کے مثل کوئی چیز نہیں جو بہت نسنے والی
 السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ
 اور دیکھنے والی شے ہے، ہمیں خدا نے تعالیٰ کافی ہے
 الْوَكِيْلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ
 وہ اچھا کارساز اچھا آقا اور اچھا مددگار ہے
 يَا دَائِمًا بِلَافِتَاءٍ وَيَا قَائِمًا بِلَا
 لے خدا بغیر فنا کے ہمیشہ رہنے والے اور بغیر زوال کے ہمیشہ

زَوَالٍ وَيَا مُدَبِّرًا بِلَا وَزِيْرٍ
 قائم اے نبیر وزیر کے تدبیر کرنے والے
 سَهْلٌ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالِدِنَا كُلِّ
 آسان کر دے ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر ہر ایک مشکل
 عَسِيْرًا لَا أَحْصِيْ تَنَاءً عَلَيْكَ
 کو میں نہیں شمار کر سکتا ہوں تیری تعریف کو جیسا کہ تو نے اپنی ذات
 أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَي نَفْسِكَ عَزًّا
 پر کی ہے، تیرا ہمسایہ عزت مند ہے اور تیری تعریف بہت
 جَارُكَ وَجَلَّ تَنَاءُوكَ وَتَقَدَّسَتْ
 بڑی ہے اور تیسرے نام
 أَسْمَاؤُكَ وَعَظَمَ شَانُكَ وَلَا إِلَهَ
 بہت پاکیزہ اور تیری شان بہت اونچی ہے اور تیرے سوا اور

كُفِيَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ
 خدا نے سُن لیا جس نے اسے پُکارا خدا کے پاس
 اللّٰهُ الْمُنْتَهَىٰ مِنْ اِعْتَصَمَ بِاللّٰهِ
 لوگوں کی مرادوں کی انتہا اور کہیں نہیں۔ جس شخص نے
 نَجَىٰ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَزَلْ رَبًّا
 خدا کو بجز اُس نے نہ تباہ کیا۔ وہ خدا نہایت پاکیزہ ہے جو ہمیشہ ہم کو
 رَحِيْمًا وَلَا يَزَالُ كَرِيْمًا لَا
 والا برور دکھاتا اور سنی رہتا ہے اس اللہ کے سوا جو نرم اور سنی ہے
 اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ
 اور کوئی خدا نہیں جو عبادت کے لائق ہو۔ وہ نہایت حلیم و کریم
 سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ
 پاک ہے اللہ اور برکت والا ہے اللہ

غَيْرُكَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ
 کوئی عبادت کے لائق نہیں خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہتا
 يَقْدَرْتَهُ وَيَخْتُمُ مَا يَرِيْدُ بِعِزَّتِهِ
 ہے کرتا ہے اور اپنی عزتِ مندی سے جو چاہتا ہے حکم دیتا
 اِلَّا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْر كُلِّ
 ہے جان لو کہ تمام چیزیں خدا کی طرف جاتی ہیں اس کی ذات کے
 شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهٗ الْحُكْمُ
 سوا ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، اس کا حکم ہے
 وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ فَيَسْئَلْكُمْ اللّٰهُ
 اور اس کی طرف تم سب لوگے خدا ان سب لوگوں کو کافر
 وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ
 ہوا۔ اور وہ سُننے اور جاننے والا ہے۔ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور

قِيَوْمًا دَايِمًا اَبَدًا
 قائم رہنے والا ہے ہمیشہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے
 لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وِلْدًا
 جس نے بیوی اختیار نہیں کی جس کا بیٹا نہیں
 وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ
 جس کا شریک میں کوئی شریک نہیں
 فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلِيٌّ مِّنَ
 جس کا کوئی ذلت کے وقت مددگار نہیں
 الدَّلِّ وَكَبْرَةٌ تَكْبِيْرًا اللّٰهُ
 اور وہ خدا بہت بڑا اور اونچا ہے اور بہت
 اَكْبَرُ حَسْبُنَا اللّٰهُ لَدِيْنِنَا
 بڑا ہے اللہ ہیں دین کے لئے کافی ہے

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ
 وہ ساتوں آسمانوں کا بھی رب ہے
 وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
 اور رب ہے عرشِ عظیم کا۔
 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
 اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے
 لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
 نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا۔ وہ اکیلا ہے اس کا
 لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِلٰهًا وَّاحِدًا
 کوئی شریک نہیں جو صفت اور ذات میں ایک ہے
 اَحَدًا صَدًا فَرْدًا وَّ تَرَا حِيًّا
 جو بے نیاز ہے اور بگناہ جو طاق ہے زندہ ہے

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الْقَبْرِ

کافی ہے اللہ ہمارے سے قبر کے وقت

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الْمَسَائِلِ

اللہ تعالیٰ ہمیں سوالوں کے وقت کافی ہے

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

ہمیں اللہ ہی مسیحا کو پار کرنے کے وقت کافی ہے

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الْحِسَابِ

اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کے وقت کافی ہے

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ

اللہ تعالیٰ ہمیں تولنے کے وقت کافی ہے

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور دوزخ میں جانے کے وقت کافی ہے

حَسْبُنَا اللهُ لِدُنْيَانَا

کافی ہے اللہ ہماری دنیا کے لئے

حَسْبُنَا اللهُ لِمَا أَهْمَنَا

اللہ ہمیں اس چیز کے لئے کافی ہے جو ہمیں غمگین بنا سکے

حَسْبُنَا اللهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيْنَا

اللہ ہمیں اس شخص کے لئے کافی ہے جو ہمارے اوپر ظلم کرے

حَسْبُنَا اللهُ لِمَنْ حَسَدَنَا

اللہ ہمیں اس شخص کے لئے کافی ہے جو ہم سے حسد کرے

حَسْبُنَا اللهُ لِمَنْ كَادَنَا بِالسُّوءِ

اللہ ہمیں اس شخص کے لئے کافی ہے جو ہمارے ساتھ برائیاں کرے

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ

عمر اللہ ہمیں موت کے وقت کافی ہے

سُبْحَانَ اللهِ مَا أَكْرَمَ اللهُ

سبحان اللہ خدا کس قدر کریم ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ ایک ہے جس کا کوئی

شَرِيكَ لَهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

شریک نہیں اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بھیجے ہوئے

حَقًّا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وہی حق ہے۔ اے خدا درود و رحمت ہو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

كَلِمًا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ

پر جبکہ آپ کا ذکر کرنے والے ذکر کریں۔

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ

اور اس طرح درود و رحمت بھیج حضرت محمد پر جبکہ آپ کے ذکر سے

حَسْبُنَا اللهُ عِنْدَ الْيَقَاءِ حَسْبِيَ اللهُ

ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے رب کے وقت کافی ہے۔ مجھے وہ خدا

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

کافی ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

اور اسی کی طرف میں لوٹوں گا۔ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں

سُبْحَانَ اللهِ مَا أَعْظَمَ اللهُ

سبحان اللہ (تکرار) سبحان اللہ کس قدر بڑا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ اللهِ

خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ سبحان اللہ

مَا أَحْلَمَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

خدا کس قدر علیم ہے۔ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں

وَبِالصِّدِّيقِ وَبِالْفَارُوقِ وَ

اور ابو بکر، صدیقؓ سے اور حضرت عمر، فاروقؓ سے اور

بِذِي الشُّوَرَيْنِ وَبِالْمُرْتَضَى

(حضرت عثمان، ذی الشوریٰ سے اور حضرت علیؓ مرتضیٰ سے

أَيُّمَةَ رِضْوَانِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ

بجماظ پیشوا ہونے کے۔ خدائے تعالیٰ کی رضامندیاں ہوں

أَجْمَعِينَ مَرْحَبًا بِالصَّبَاحِ

آپ پر، مبارک باد ہو نبی صبح کی

الْجُدَيْدِ وَبِالْيَوْمِ السَّعِيدِ

اور سعادت والے دن کی

وَبِالْمَلَائِكَةِ الْكَاتِبِينَ

اور ان دو فرشتوں کی جو ہمارے اچھے اور برے عمل لکھتے ہیں

عَنْ ذِكْرِ الْغُفْلُونَ رَضِينَا

عنافس لوگ غفلت اختیار کریں ہم رضی ہیں

بِاللَّهِ تَعَالَى رَبِّا وَبِالْإِسْلَامِ

اللہ تعالیٰ سے بجماظ اس کے رب ہونے کے اور اسلام سے بجماظ

رَبِّنَا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کا دین ہونے کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا

اس کا نبی اور رسول ہونے کے اور قرآن سے بجماظ اس کے پیشوا

وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالصَّلَاةِ

پر نیکی اور کعبہ سے بجماظ قبلہ ہونے کے اور نماز سے بجماظ

فَرِيضَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا

نظر ہونے کے اور تمام ایمان والوں سے بجماظ بھائی ہونے کے

شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

حق شریک نہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمدؐ

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى

اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے لئے

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

اور سچے دین کی حمایت کے لیے بھیجا ہے تاکہ اس کا دین تمام دنیا کی

الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

دینوں پر غالب آجائے جو کہ خدا کے ساتھ شریک مقرر کرنے والے

عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ

لوگ اس کو تابعدار ہی کریں اسی شہادت پر

نَحْيِي وَعَلَيْهَا نَمُوتُ

ہم زندہ ہیں۔ اور اسی پر ہم مر جائیں گے۔

الشَّاهِدِينَ الْعَادِلِينَ

جو عدل و انصاف والے گواہ ہیں۔ اسے کرام الکاتبین خدا کے

حَيَاتِكُمْ مَا اللَّهُ تَعَالَى فِي عَتْرَةِ

سلام کے گھنے تم دونوں پر اس دن کے ابتدا میں بھیجے

يَوْمِنَا هَذَا الْكُتُبِ فِي أَوَّلِ

کچھے ہمارے نام اعمال کے پہلے ورق میں

صَحِيفَتِنَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَأَشْهَدُ أَيُّهَا نَشْهَدُ

اور تم گواہ رہو کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ

أَنَّ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو نقطہ ایک ہے جس کا

وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

اوراں پر ہم قیامت کے دن انہیں گے اگر اللہ نے چاہا

تَعَالَى أَعُوذُ بِكَ اللَّهُ

میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے ساتھ جو

التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

سب کے سب کامل ہیں مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو آسمان کا

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ

شروع اللہ کے نام سے جو زمین کا رب ہے

وَرَبِّ السَّمَاءِ الَّذِي

اور آسمان کا رب ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے

لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ

جس کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور اللہ بہت سنتے مانتے والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا

تمام تعریفیں اس خدا کے لایق ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد

أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْبَعْثُ وَالنُّشُورُ

ترہہ کیا جس کی طرف ہم قیامت کے دن انہیں گے اور پھیلانے

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ

پہنچنے کے ہم نے اور خدا کے تمام ملک نے صبح کی

الْعِزَّةُ وَالْعَظَمَةُ وَالْجَبْرِيَّةُ

عزت اور عظمت اور بڑائی

وَالْجَبْرُوتُ وَالسُّلْطَانُ وَالْبُرْهَانُ

اور سختی اور زہم اور روشن دلیل

لِلَّهِ وَالْأَلَاءُ وَالنِّعْمَاءُ

خاصہ کے لئے ظاہری اور باطنی تمام نعمتیں خدا کے لیے ہی

لِلَّهِ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لِلَّهِ وَمَا

ہی رات اور دن خدا کے لئے ہیں اس طرح وہ چیزیں جو رات دن

سَكَنَ فِيهَا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

میں آرام و سکون پکڑتے ہیں اس ایک خدا کی ہیں جو نافرمانوں پر

الْقَهَّارِ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ

تہم کرنے والا ہے ہم نے اسلام کے فطری اور قدرتی

الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ

دین اور خدا کو خالص ایک ٹھہرانے کے کلمہ اور

وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

اپنے نبی (یعنی حضرت) محمد صلی اللہ علیہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى

وسلم کے دین اور اپنے

مِلَّةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

باب حضرت ابراہیم کے مذہب یعنی دین اسلام پر

مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

مسلم کی یہ مسلمان تھے۔ شریک ٹھہرانے والے لوگوں میں سے نہ تھے

صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ

درود اور رحمتیں ہوں خدا تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی

۵۵

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

سلام آپ پر اے خدا کے رسولؐ نازل ہوں

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَ

اے خدا کے محبوب خدا کے درود اور

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللَّهِ

سلام آپ پر نازل ہوں اے خدا کے دوست

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

يَا نَبِيَّ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

اے خدا کے نبیؐ خدا کے درود اور سلام

۵۴

وَأَنْبِيَاءِهِ وَرُسُلِهِ وَ

اور اس کے نبیوں کی اور اس کے رسولوں کی اور

حَمَلَةَ عَرْشِهِ وَجَمِيعِ

اس کے عرش اٹھانے والے فرشتوں کی اور اس کی تمام

خَلْقِهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

مخلوق کی ہمارے آقا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

وَالِإِلَهِ وَأَصْحَابِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ

اور آپ کی اولاد اور آپ کے صحابہ کرامؓ پر خدا کی سلامتی

السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

اور اس کی رحمتیں

وَبَرَكَاتِهِ الصَّلَاةُ

اور بڑھکتی نازل ہوں خدا کے بے شمار درود اور

۵۷

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ

اور سلام آپ پر نازل ہوں اے وہ ذات جسے خدا نے

زَيَّنَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

زیارت دی ہے۔ خدا کے درود اور سلام آپ پر

عَلَيْكَ يَا مَنْ شَرَّفَهُ اللَّهُ

نازل ہوں اے وہ ذات جسے خدا نے سب سے زیادہ شریف

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

مقرر کیا ہے۔ خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

يَا مَنْ كَرَّمَهُ اللَّهُ

اے وہ ذات جسے خدا نے عزت و تکریم والا کیا ہے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

۵۶

عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللَّهِ الصَّلَاةُ

آپ پر نازل ہوں اے خدا کے برگزیدہ خدا کے درود اور

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ

سلام آپ پر نازل ہوں اے خدا کی بہترین

خَلْقِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

مخلوق خدا کے درود اور سلام آپ

عَلَيْكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ

پر نازل ہوں اے وہ ذات جسے خدا نے چنا ہے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ الصَّلَاةُ

اے وہ ذات جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ خدا کے درود

۵۹

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

يَا شَفِيعَ الْمُدْنِيِّينَ (سہ بار)

اے عفا ہنگاروں کی سفارش کرنے والے (تین مرتبہ)

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اے تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول

صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالَى

درود اور رحمت نازل ہو اللہ تعالیٰ کی

وَمَلَائِكَتِهِ وَأَنْبِيَآئِهِ

اور اس کے فرشتوں کی اور اس کے نبیوں کی

۵۸

يَا مَنْ عَظَّمَهُ اللّٰهُ الصَّلَاةُ

اے وہ ذات جسے خدا نے بزرگی اور بڑائی والا کیا ہے خدا کے

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ

درود اور سلام آپ پر نازل ہوں۔ اے تمام رسولوں کے

الْمُرْسَلِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

سردار خدا کے درود اور سلام

عَلَيْكَ يَا اِمَامَ الْمُتَّقِينَ

آپ پر نازل ہوں اے تمام پرہیزگاروں کے پیشوا

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

خدا کے درود اور سلام آپ پر نازل ہوں

يَا خَاتِمَ النَّبِيِّينَ

اے وہ نبی جس پر تمام نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا

۶۱

فِي الْاَوَّلِينَ وَصَلِّ عَلٰى

پہلی پیدا ایش میں درود اور سلام بھیج اور اے اللہ ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاٰخِرِينَ

سردار حضرت محمد پر آخری پیدا ایش والے لوگوں میں درود

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اور سلام بھیج۔ اے اللہ درود اور سلام بھیج ہمارے سردار

فِي الْمَبْلَاغِ اَلْاَعْلٰى اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ

حضرت محمد پر اوپر والی جماعت میں قیامت کے دن تک اور

وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد پر درود و سلام بھیج

فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ وَصَلِّ عَلٰى

ہر گھڑی اور ہر وقت اور درود و سلام بھیج

۶۰

وَرُسُلِهِ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ

اور اس کے رسولوں اور اس کے عرش اٹھانے والے فرشتوں

وَجَمِيعِ خَلْقِهِ عَلٰى

کی اور اس کی تمام مخلوق کی ہمارے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

آقا (حضرت) محمد پر اور آپ کی اولاد پر اور صحابہ کرام پر

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ

پر اور خدا کی سلامتی اور

رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اللّٰهُمَّ

اسکی رحمت اور اسکی برکتیں (حضرت محمد اور انکی آل اولاد پر نازل ہوں

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

دُعَاءِ رِقَابَا

گردنوں کے چھٹکارے کی دعاء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے

اللّٰهُمَّ يَا مَالِكَ الرَّقَابِ وَ

اے اللہ اے گردنوں کے مالک اور

يَا مُفْتِحَ الْأَبْوَابِ وَيَا

اے رحمت کے دروازوں کو کھولنے والے اور اے

مُسَيِّبَ الْأَسْبَابِ هَيِّئْ لَنَا

سبب کرنے والے خدا ہمارے لئے رزق کوئی

جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

اپنے تمام نبیوں اور رسولوں پر

وَعَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ

اور اپنے مقرب فرشتوں پر

وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اور اپنے نیکوکار بندوں پر

وَعَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

اور اپنے تمام اطاعت گزار بندوں پر

وَأَرْحَمَنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ

اور رحم کر ہم پر ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

صَابِرِينَ عَلَى بَلَاءِكَ

تیری نصیبیوں پر صبر کرنے والے۔ تیرے دیئے

وَتَانِعِينَ لِعَطَائِكَ شَاكِرِينَ

ہونے پر قناعت کرنے والے۔ تیری نعمتوں کے شکر گزار

لِنِعْمَائِكَ مُتَلَذِّذِينَ بِذِكْرِكَ

تیرے ذکر سے لذت اٹھانے والے

فَرِحِينَ بِكِتَابِكَ مُنَاجِينَ

خوش رہنے والے تیری کتاب سے تیرے ساتھ راتوں کے وقت

بِكَ فِي أَنْاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ

دن میں سرگوشی کرنے والے

النَّهَارِ مُبْغِضِينَ لِلدُّنْيَا

دنیا سے بغض اور نفرت کرنے والے

سَبَبًا لَا نَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا

ایسا سبب پیدا کر جس کے تلاش کرنے کی ہم میں طاقت نہیں

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مَسْغُولِينَ

اے خدا ہمیں اپنے حکم کی ادائیگی بجالانے میں مشغول رکھ

بِأَمْرِكَ آمِنِينَ بَعْدَكَ

اپنے افسان سے امن میں رکھ اپنی مخلوق

الْأَسِيْنِ مِنْ خَلْقِكَ الْاَسِيْنِ

سے نا امید رکھ اپنی ذات کے ساتھ محبت

بِكَ مُسْتَوْحِشِينَ عَنِ

والا اپنے غیبر سے ہمیں دور رکھ تیرے فیعلے

غَيْرِكَ رَاضِينَ بِقَضَائِكَ

سے راضی رہنے والے

۶۶

وَمُحِبِّينَ لِلْآخِرَةِ مُشْتَاقِينَ

اور آخرت کو دوست رکھنے والے تیری ملاقات کے شوقین

إِلَىٰ لِقَائِكَ مُتَوَجِّهِينَ إِلَىٰ

تیری درگاہ کی طرف متوجہ ہونے والے

جَنَابِكَ مُسْتَعِدِّينَ لِمَوْتِ

موت کے لیے ہر وقت تیار رہنے والے

رَبِّنَا وَإِتِمَامًا وَعَدُّنَا عَلَىٰ

اے ہمارے رب ہمیں دو چیز دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا

رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ

اپنے رسولوں کی زبانی اور تو ہمیں قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ

ذیل اور رسوا نہ کر نہیں خلاف کرتا ہے تو اپنے

۶۷

الْمِيعَادَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِتَوْفِيقِ

وعدے کے - اے خدا اپنی موافقت ہماری سادھی بنا

رَفِيقِنَا وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ طَرِيقِنَا

اور بالکل سیدھے راستے کو ہمارا راستہ بنا۔

اللَّهُمَّ أَوْصِلْنَا إِلَىٰ مَقَاصِدِنَا

اے اللہ ہمیں اپنی اپنی مرادوں پر پہنچا۔

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ

اور ہماری طرف اپنی رحمت سے رجوع کر تو بیشک اپنے بندوں کی

الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا

طرف نونے وللا مہربان ہے۔ اے خدا ہم نے تیرا نام لے کر صبح کی

وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا

اور تیرا ہی نام لے کر شام کی اور تجھ ہی سے ہم زندہ ہیں

۶۸

وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ

اور تیری ہی بدولت ہم مرجائیں گے۔ اور تیری ہی طرف لوٹنے

الْمَصِيرُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا ذَاةَ النَّظَرِ

کی جگہ ہے اے خدا ہمیں عطا کر ہمیں اپنے چہرے کی

إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشُّوقِ إِلَىٰ

طرف دیکھنا اور اپنے

لِقَائِكَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ

شوق اے خدا ہمیں پچائی کو

حَقًّا وَارْزُقْنَا إِتِبَاعَهُ وَارِنَا

جیسی کہ وہ ہے اپنے اصلی روپ میں دکھا اور ہمیں اس

الْبَاطِلَ بِاطِلًا وَارْزُقْنَا

کی بیروی کی توفیق عطا کر اور جھوٹ کو بھی اپنے اصلی روپ میں دکھا

۶۹

اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ أَرِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ

اور اس سے پرہیز اور دور رہنے کی توفیق بخش۔ اے خدا

كَمَا هِيَ تَوْفِنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقَّنَا

ہمیں تمام چیزوں کی اصلیتیں جیسی کہ وہ ہیں دکھا۔ ہمیں مسلمان

بِالصَّالِحِينَ وَادْفَعْ عَنَّا شَرَّ

ہونے کی حالت پر مار اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا اور ہم سے

الظَّالِمِينَ وَشَارِكِنَا فِي دُعَاءِ

ظالموں کا شر دور کر اور ہمیں اپنے با ایمان بندوں

الْمُؤْمِنِينَ وَنَبْهِنَا عَنْ نَوْمَةِ

کی دعاؤں میں شریک ٹھہرا۔ ہم غفلت سے سونے والے لوگوں

الغفيلين وَاَرْزُقْنَا شَفَاعَةَ

کی نیند سے بیدار کر اور ہمیں تمام رسولوں کے سردار

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ

النَّصْرَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ

کی مدد کر۔ اے اللہ حضرت محمد کی امت کو مخالفین اسلام

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

پر فتح نصیب کر۔ اے اللہ

اصْلِحْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اصلاح کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنَّا أُمَّةَ

کی اے اللہ کشادگی کر امت

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

یعنی حضرت محمد کی شفاعت نصیب کر اور ہمیں جنت میں

بِسَلَامٍ أَمِينٍ وَأَحْشُرْنَا

سلامتی اور امن کے ساتھ داخل کر اور اٹھا ہم کو

مَعَ الْمُتَّقِينَ وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ

پر ہیڑگاروں کے ساتھ اور ہمیں جھٹکا رادے روزخ کی آگ،

بِأَمْرٍ يَا مُجِيبُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّةِ

سے، اے پناہ دینے والے۔ اے اللہ حضرت محمد کی امت کے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تمام عمن ہوں کو بخیر دے۔

اللَّهُمَّ أَرْحَمِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ

اے اللہ حضرت محمد کی ساری امت پر رحم کر۔

يَا حَبِيبَ التَّوَّابِينَ تَبَّ عَلَيْنَا

اے توبہ کرنے والے لوگوں کے محبوب ہماری طرف رحمت سے

وَيَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ امْتَا وَيَا

ستوجہ ہو اے خوفزدہ لوگوں کو امن دینے والے ہمیں امن دے اور

دَلِيلَ الْمُتَحَيْرِينَ دُلْنَا وَيَا هَادِيَ

اے حیران اور راستہ بھولے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے والے ہمیں سچا

الْمُضِلِّينَ اهْدِنَا وَيَا غِيَاثَ

راستہ دکھا۔ اے گمراہ لوگوں کو ہدایت دینے والے ہمیں سدھارا۔ دکھا

الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنَا وَيَا رَجَاءَ

اے فریاد کرنے والے لوگوں کی فریاد کو پہنچنے والے ہماری فریاد کو پہنچ۔

الْمُنْقَطِعِينَ لَا تَقْطَعْ رَجَاءَنَا

اور لے ٹوٹی ہوئی امیدوں کے لوگوں کی امید ہماری امیدوں کو مت توڑ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللَّهُمَّ كَرِّمِ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اے اللہ عزت بلند کر امت محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ عَظِّمِ أُمَّةَ

علیہ وسلم کی اے اللہ بڑائی عطا کر امت محمد

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے اللہ

تَجَاوَزْ عَن سَيِّئَاتِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

در گذر کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ

کے گناہوں سے اے اللہ

اللّٰهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا

اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہمارے

اللّٰهُمَّ احْفَظْ قُلُوبَنَا اللّٰهُمَّ

دلوں کو بے دینی سے محفوظ رکھو۔ اے اللہ

نَوِّرْ قُلُوبَنَا اللّٰهُمَّ

ہمارے دلوں کو روشنی دے اے اللہ: ہمارے

نَوِّرْ قُبُورَنَا اللّٰهُمَّ لِيَسِّرْ

قبروں کو روشن کر اے اللہ ہمارے کاموں کو

اُمُورَنَا اللّٰهُمَّ حَصِّلْ

آسان کر۔ اے اللہ ہماری مرادوں کو

مَرَادَنَا اللّٰهُمَّ تَمِّمْ

پورا کر۔ اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں

وَيَا رَاحِمَ الْعَاصِيْنَ اِرْحَمْنَا

اور اے نافرمانوں پر رحم کرنے والے ہم پر رحم کر

وَيَا غَافِرَ الْمُذْنِبِيْنَ اغْفِرْ لَنَا

اور اے گناہگاروں کے گناہوں کی مغفرت کرنے والے

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا

ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری برائیوں کو نیکیوں سے

سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ

تسہیل کرے۔ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ

الْاَبْرَارِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا

ماہر اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر

اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عِيُوْبَنَا

اے اللہ ہمارے سارے مہیوں پر پردہ ڈال

وَلِقَبَائِلِنَا وَلِمَنْ لَهٗ

اور ہمارے قبیلہ والوں کی اور اس آدمی کی جس کا ہمارے

حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيْعِ اُمَّةٍ

اور ہر کوئی حق ہے اور تمام امت محمد کی

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ

اس پر خدا کی رحمت اور سلامتی

وَالسَّلَامُ وَقِنَارَ بَنَانَا

نازل ہو اور بچا ہم کو لے ہمارے رب

شَرِّ مَا قَضَيْتَ وَقِنَارَ بَنَانَا

شر سے اس چیز کے جس کا تو نے فیصلہ کر لیا ہے اور بچا ہم کو

عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ

لے ہمارے رب عذاب قبر سے اور دوزخ کے عذاب سے

تَقَا صِيْرَنَا اللّٰهُمَّ نَجِّنَا

کو ختم کر دے، اے اللہ ہم جس چیز سے ڈرتے ہیں

مِمَّا نَخَافُ يَا حَفِيْ

اس سے ہمیں نجات دے۔ اے چھپی ہوئی مہربانیوں والے

الْاَلطَّافِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

خدا۔ اے اللہ مغفرت کر ہماری

وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَشَارِحِنَا

اور ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے بزرگوں کی

وَلِاَسْتَاذِنَا وَلاَصْحَابِنَا

اور ہمارے استادوں کی اور ہمارے ساتھیوں کی

وَلِاَحْبَابِنَا وَلِعَشَائِرِنَا

اور ہمارے دوستوں اور ہمارے رشتہ داروں

۷۹

وَالْبَلِيَّاتِ وَبَارِكْ لَنَا

اور آزمائشوں سے اور ہمارے رزق

فِي الرِّزْقِ وَالْعُمْرِ وَالْحَسَنَاتِ

اور عمر اور نیکیوں میں برکت سے

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا يَا فَيَّاضُ مِنْ

اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ اے نبض و برکت والے

جَمِيعِ الْبَلَايَا وَالْأَمْرَاضِ

تمام آزمائشوں اور بیماریوں سے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ خَيْرِ خَلْقِهِ

اور اے خدا اپنی رحمت اور درود ان ذائقوں پر بھیج جو اکی مخلوق

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

میں سے بہتر ہے یعنی حضرت محمدؐ اکی اولاد و صحابہ کرامؓ پر۔

تمت

۷۸

النَّارِ وَعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

اور ہمیں انٹھاقیات کے دن اپنے سے ڈرنے والوں اور

وَاحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَلَا يُرَارِ

نیک لوگوں کے ساتھ

اللَّهُمَّ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الْأُورَادِ

اے اللہ اس اورادِ فتحيہ کی برکت سے ہم

الْفَتْحِيَّةِ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ نِعْمَاتِكَ

یہ اپنی مہربانیوں اور بخششوں کے دروازے

وَالْكَرَامَاتِ وَوَقِّفْنَا لِلطَّاعَاتِ

کھول دے اور ہمیں تو بیق دے اپنی فرمائشوں

وَالْعِبَادَاتِ وَاحْفَظْنَا مِنَ الْآفَاتِ

اور عبادتوں کی اور بچا ہمیں تمام آفتوں اور اپنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ